

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ  
الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

”نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں“

تکبیر:

اللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ پاک سب سے بڑا ہے

ثنا:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ط

اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام بَرَکَت والا ہے اور تیری بزرگی بہت بڑی ہے اور  
تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

تعوذ:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

میں اللہ پاک کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔

تسمیہ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔

سورۃ الفاتحہ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ  
 نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ کنزالعرفان: سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ بہت مہربان رحمت  
 والا۔ جزا کے دن (یعنی قیامت) کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں  
 سیدھے راستے پر چلا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہو اور نہ بہکے  
 ہوؤں کا۔

سورۃ الفیل:

الَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ ۝  
 ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ  
 مَّا كُوِلَ ۝

ترجمہ کنزالعرفان: کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے  
 مکرو فریب (یعنی دھوکے) کو تباہی میں نہ ڈالا۔ اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے۔ جو انہیں کنکر کے پتھروں  
 سے مارتے تھے۔ تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔

سورۃ القریش:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۚ الْفِهِمَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا  
الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۚ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

ترجمہ کنزالعرفان: قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے۔ انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے۔ تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہئے۔ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔

### سورۃ الماعون:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحُضُّ عَلَى  
طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ  
هُمْ يُرَاءُونَ ۚ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ

ترجمہ کنزالعرفان: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے۔ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔

### سورۃ الکوثر:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۚ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۚ

ترجمہ کنزالعرفان: اے محبوب! بیشک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بیشک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

### سورۃ الکافرون:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾  
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ! اے کافرو!۔ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو۔ اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔

### سورۃ النصر:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴿٣﴾ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٤﴾

ترجمہ کنزالعرفان: جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بیشک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

### سورۃ اللہب:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ  
لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

ترجمہ کنزالعرفان: ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہو گا۔ اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔

### سورۃ الاخلاص:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ لَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور کوئی اس کے برابر نہیں۔

### سورۃ الفلق:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَ

مِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور ان عورتوں کے شر سے جو گریہوں میں پھونکیں مارتی ہیں۔ اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔

## سورۃ الناس:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

ترجمہ کنزالعرفان: تم کہو: میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تمام لوگوں کا بادشاہ۔ تمام لوگوں کا معبود۔ بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے (پناہ لیتا ہوں)۔ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جنوں اور انسانوں میں سے۔

## ذکوع کی تسبیح:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

اللہ پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار۔

## تسبیح:

سَبِّحَ اللَّهُ لَبَنٌ حَبْدًا

اللہ پاک نے اُس کی سُن لی جس نے اُس کی تعریف کی۔

## تحمیند:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلكَ الْحَمْدُ

اے اللہ! اے ہمارے مالک! سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔

## سجدے کی تسبیح:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند۔

جلسے کی تسبیح:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

اے اللہ! میری مغفرت فرما، کہہ لینا مستحب ہے۔

التَّحِيَّات:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
رَسُولُهُ ط

تمام قوی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ پاک ہی کیلئے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی! اور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ پاک کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

ذُرُودِ اِبْرَاهِيمَ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ  
حَبِيبٌ مَّحَبَّبٌ وَاللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَبِيبٌ مَّحَبَّبٌ ط

اے اللہ! ذرود بھیج (ہمارے سردار) محمد پر اور ان کی آل پر جس طرح تُو نے ذرود بھیجا (سیدنا) ابراہیم پر

اور انکی آل پر، بے شک تو سزا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ! برکت نازل کر (ہمارے سردار) محمد پر اور ان کی آل پر جس طرح تُو نے برکت نازل کی (سیدنا) ابراہیم اور انکی آل پر، بے شک تو سزا ہوا بزرگ ہے۔

**درد شریف کے بعد دُعا:**

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے اللہ! اے رب ہمارے! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذابِ دوزخ سے بچا۔

**سلام:**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

تم پر اللہ پاک کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہو۔

**دُعاے ثنوت:**

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْنَا وَتُنْصِنِي عَلَيْنَا الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُحَدِّثُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ وَنُحَدِّثُكَ وَنَسْجُدُكَ وَإِلَيْكَ نَسْجُدُ وَنَخْفُدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنُخْشِي عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ط

اے اللہ! ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لئے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور خدمت کیلئے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔



الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

نماز نیند سے بہتر ہے۔

اقامت میں سحیٰ علی الفلّاح کے بعد:

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

جماعت کھڑی ہو گئی۔

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كاجواب:

أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

اللہ پاک اس کو قائم رکھے جب تک آسمان اور زمین ہیں۔

پہلی بار اَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ كاجواب (انگھوٹے چومنے سے پہلے):

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

آپ پر دُرُودِ ہو یا رسول اللہ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٖ وَسَلَّمَ)۔

پہلی بار انگھوٹے چومنے کے بعد:

اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّبْعِ وَالْبَصْرِ

اے اللہ! میری سننے اور دیکھنے کی تُوْت سے مجھے نفع عطا فرما۔

دوسری بار اَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ كاجواب (انگھوٹے چومنے سے پہلے):

قُرْآنُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

یا رسول اللہ! (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٖ وَسَلَّمَ) آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

دوسری بار انگھوٹے چومنے کے بعد:

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ

اے اللہ! میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما۔

حی علی الصلوة اور حی علی الفلام کے جواب میں:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

جو اللہ! نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا۔

فجر کی اذان میں حی علی الصلوة اور حی علی الفلام کے بعد:

الصلوة خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

نماز نیند سے بہتر ہے۔

الصلوة خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کا جواب:

صَدَقْتَ وَبَرُّتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ

تو سچا اور نیلو کار ہے اور تو نے حق کہا ہے۔

اذان کے بعد کی دعا:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الشَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ اتِّسَدْنَا مُحَمَّدًا وَابْنَهُ الْفَضِيلَةَ  
وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَأزْمُرُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا

## تُخْلِفُ الْبَيْعَادُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے اللہ! اے اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب! تو! ہمارے سردار! حضرت محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کو وسیلہ (یعنی جنت میں ایک ایسی جگہ کہ جو صرف ایک ہی کو ملے گی) (فتاویٰ رضویہ جلد ۳۰، ص ۲۳۳ طحطا) اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور اُن کو مقام محمود (یعنی گناہ گاروں کے گناہ مُعَاف کرنے کی سفارش اور شفاعت والے درجے) (فتاویٰ رضویہ جلد ۳۰، ص ۷۰ طحطا) میں کھڑا کر جس کا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے۔

### بالغ مرد و عورت کے جنازہ کی دُعا:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ، مِمَّا فَاحِيَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ، مِمَّا تَوَقَّاهُ، عَلَى الْإِيمَانِ

الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر فوت شدہ کو اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غائب کو اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہر عورت کو الہی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔

### بالغ لڑکے کی دُعا:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا آجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا

الہی اس (لڑکے) کو ہمارے لئے آگے پہنچ کر سامان کرنیو الابدادے اور اسکو ہمارے لئے اجر (کا موجب) اور وقت پر کام آنیو الابدادے اور اسکو ہماری سفارش کرنیو الابدادے اور وہ جسکی سفارش منظور ہو جائے۔

### بالغ لڑکی کی دُعا:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا آجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً

الہی اس (لڑکی) کو ہمارے لئے آگے پہنچ کر سامان کرنیو الابدادے اور اسکو ہمارے لئے اجر (کی موجب) اور وقت پر کام آنیو الابدادے اور اسکو ہماری سفارش کرنیو الابدادے اور وہ جسکی سفارش منظور ہو جائے۔